



اسلامک فائز پروڈیکٹس کے لیے حقائق پر مبنی اہم بیان (21 مئی 2025 سے مؤثر)														
اہم نوٹ: اگر آپ نیا اکاؤنٹ کھولنے پر غور کر رہے ہیں تو اس دستاویز کو بغور پڑھیں۔ یہ انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں دستیاب ہے۔ آپ دوسرے بینکوں کے ذریعے چلے جانے والے مختلف اکاؤنٹس کا موازنہ کرنے کے لیے بھی اس دستاویز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو موازنہ کے لیے دوسرے بینکوں کے ایف ایس وصول کرنے کا حق ہے۔														
اکاؤنٹ کی اقسام اور اس کی نمایاں خصوصیات: یہ معلومات ڈگورڈ تاریخ کے مطابق درست ہیں۔ خدمات، فیس اور منافع کے ریٹ مشابہتی بنیاد پر تبدیل کیے جاسکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ / چارجر کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.soneribank.com یا ہماری برانچز دیکھ سکتے ہیں۔														
تفصیلات	میری مستقیم سہولت اکاؤنٹ													
	غیر منافع بخش اکاؤنٹ													
	راجہ اکاؤنٹ							جہادی اکاؤنٹ						
	آسان							پیشتر						
کرنسی	پاکستانی روپے							پاکستانی روپے						
اکاؤنٹ کے لیے کم پینشن	100 روپے							100 روپے						
برقرار رکھنے کے لیے	25-000 روپے							0 روپے						
اکاؤنٹ کی منتقلی فیس	0 روپے							0 روپے						
کیا اکاؤنٹ پر منافع دیا جاتا ہے؟	ہاں							نہیں						
منافع بخش اثاثہ (م) (ملاوات)	7.93%							5.75% - 8.5%						
منافع کی ادائیگی کی تعداد	ماہانہ							ماہانہ						
مثلاً 1000 روپے پر آپ جتنی کم دیتے ہیں۔۔۔۔۔	PKR 6.51							منافع کے حساب کے لیے لیٹی ریٹ 1.5% سے زیادہ کیجیے۔						
فصلی ادائیگی / ہالڈنگس / کھاتے کی فیس	فصلی اطلاق نہیں							فصلی ادائیگی / ہالڈنگس / کھاتے کی فیس						

[illegible][illegible]

[illegible]

لازمی معلوم ہونا چاہیے

[illegible]

ادوات کھولنے کے لیے مطلوبہ اقدام: ادوات کھولنے کے لیے آپ کو ریگو لیٹری ہدایات اور ہینک کی والدہ پالیسی کے مطابق شناخت کی کچھ ضروریات کو پورا کرنا ہوا گا۔ ان میں آپ کی شناخت کی تصدیق کے لیے دستاویزات اور معلومات

اللہ کی مدد سے اپنا اکائونٹ بند کرنے کے لیے درخواست شدہ اکائونٹ بندش کی درخواست میں غیر استعمال شدہ چیک بک اور ڈیپازٹ کارڈ (اگر کوئی ہوں) اپنے متعلقہ برانچ میں جمع کروائیں۔

چیک افس: بے ایمانی ہے چیک کا 70٪ اور پاکستان ٹریڈل کو 30٪ دے۔ F489 کے مطابق مجرمانہ فعلت ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کو انتہائی احتیاط کے ساتھ گھسنے چاہیے۔

سیف کشمیری: آپ کے اہانت نگار رسائی کے فرائض کو ملحوظِ حق میں جیسے ایبٹ کارڈ، پن کوڈز، چیکنس، ای سیٹنگنگ وغیرہ اور دیگر ذاتی معلومات وغیرہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ صارف کی جانب سے سکیورٹی خطرات کی صورت میں چیکنگ کو ذمہ دار نہیں بنایا جاسکتا ہے۔ معلومات کے حصول کے لیے سنٹری چیکنگ کی جانب سے آپ کو کبھی بھی کال نہیں کی جائے گی۔

ریکارڈنگ مشین: کسی بھی اہم مواصلات کی عروسی سے بچنے کے لیے ایچ۔ بینک کے پاس موجود پروفاکسل / ریکارڈنگ کو آپ ڈیٹہ رکھیں۔ آپ اپنی معلومات آپ ڈیٹہ کرانے کے لیے متعلقہ برانچ سے رجوع کر سکتے ہیں۔

[illegible]

021111766374: ڪاليج سروس
com: suggestion@soneribank
www.soneribank.com: ويب سائٹ

اگر آپ ملے جلے مطلق ممکن نہیں ہیں تو آپ مل جل کر رکھتے ہیں۔

کراچی سیکرٹریٹ، بینکنگ محاسب پاکستان

پانچویں منزل، شاہین کپیس، ایم آر کپانی روڈ، کراچی

تیلی فون نمبر: 22199217334

+922199217375 فیس

ای میل: info@bankingmohtasib.gov.pk

میں حقائق پر مبنی اس بیان کی وصولی اور اس کو بخوبی سمجھنے کا اعتراف کرتا ہوں

志

کام:

منتخب شدہ پروڈکٹ:

اکا لٹ میٹریٹ: سٹکل / جوائنٹ / آنکیر یا سروائیور

•

برائے رابطہ:	موبائل نمبر:
--------------	--------------

ای میل ایچے رئیس:	
-------------------	--

تعدادی سطور